

orọ ko ki ẹnyin fun awọn ẹniti iyawo wọn lọ ni irufẹ ohun ti nwọn na ni owó, ki ẹ si bẹru Qlọhun Ẽniti ẹnyin ni igbagbo ododo si.

12. Irẹ Annabi, nigbati awọn onigbagbo ododo obirin ba wa ba o ti nwọn wa ba o se majemu lori pe awọn kò ni da nkan pọ mọ Qlọhun mọ atipe awọn kò ni jale atipe awọn kò ni se agbèrè atipe awọn kò ni pa awọn omọ wọn atipe awọn kò ni da adapa irọ eyiti nwọn fi owo wọn ati esẹ wọn se (nipa gbigbe omọ ti kiise ti oko fun u) ti nwọn kò si ni yapa re nibi daradara, nigbana ba wọn se majemu, ki o si toro aforiji lodọ Qlọhun fun wọn, Dajudaju Qlọhun ni Alaforiji, Onike.

13. Ẽnyin Onigbagbo ododo, ki ẹnyin maşe ba awọn enia kan ti Qlọhun ti binu si se ore imule, dajudaju nwọn ti so ireti nu nipa orun, gegebi awọn alaigbagbo ti so ireti nu nipa ero sare.

(61) *Suratul - SQffi*


Ni orukọ Qlọhun Ajọkẹ aiyẹ, Aşakẹ orun.

1. Awọn ohun ti o wa ninu sanma ati ohun ti o wa ni ori ile nwọn nfi ogo fun Qlọhun; atipe On ni Alagbara, Qlọgbon.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَهُ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا بَعَثَكَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَبْشُرَ كُنَّ بِاللَّهِ سَعِيًّا وَلَا يَشْرَفَنَ وَلَا يُرِيبنَ وَلَا يَقْتُلنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَنٍ يَفْرِيهِنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِمُنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبِأَعْيُنِنَ وَأَسْتَغْفِرُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْتَوَلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْؤَامِنَ الْآخِرَةَ كَمَا يَسِ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿٦٣﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٤﴾

2. Ẽnyin ẹniti ẹ gbagbọ lododo, kiloše ti ẹnyin fi nsọ ohun ti ẹnyin kò ni še nişe.

3. O jẹ ohun ibinu ti o tobi ni ọdọ Ọlọhun pe ki ẹnyin mã sọ ohun ti ẹnyin kò ni še nişe.

4. Dajudaju Ọlọhun nferan awọn ẹniti nwọn njagun si oju ọna Rẹ leto-leto, nwọn da gegebi (odi) ti a mọ ti o lẹ pọ mọ ara wọn.

5. Atime (ki o şe iranti) nigbati Musa sọ fun awọn enia rẹ pe: Ẽnyin enia mi, kiloše ti ẹnyin fi nni mi lara, beńi dajudaju ẹnyin mọ pe ojիşe Ọlọhun ni emi jẹ si nyin? Nigbati nwọn şeri, Ọlọhun na şeri ọkàn wọn. Ọlọhun kò ni fi ọna mọ awọn obilejẹ enia.

6. Atime (şe iranti) nigbati Isa ọmọ Mariyama sọpe: Ẽnyin Ọmọ Israila, dajudaju emi jẹ ojիşe Ọlọhun si nyin ti o jeri ododo si ohun ti o ti şiwaju ninu At-Taorata mo si jẹ olufun (nyin) niro idunnu nipa Ojիşe kan ti yio de lẹhin mi ti orukọ rẹ yio ma jẹ Ahmadu. Şugbọn nigbati o de wa ba wọn peļu alaye ti o yanju, nwọn sọpe: Idan kan ti o han gbangba ni eyi.

7. Tani jẹ alabosi ju ẹniti o nda adapa irọ mọ Ọlọhun lọ nigbati a npe e sibi Ẽsin Alafia (Islam).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ
صَفًا كَانُوْا مِنْهُمْ رِّسْوَةٌ مُّرْسُوْسٌ ﴿٤﴾

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِيْمَ تَوَدُّوْنَ
وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنْي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا
رَاَعُوْا اَنْزَاعَ اللّٰهِ فُلُوْا بِهِمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

وَ اِذْ قَالَ عِيسٰى اِبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرٰتِ وَ مَبَشِّرًا بِرَسُوْلِيْ
اٰتِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمِعُوْهُ اَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا
هٰذَا سِحْرٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦﴾

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى
اِلٰى الْاِسْلٰمِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾

Atipe Qlqhun na kò ni fi qna han awon alabosi enia.

8. Nwon fe lati pe ki nwon pa imole Qlqhun nipa (qro) enu won, Qlqhun yio si pe imole Re, biofe bi awon alaigbagbo ko.

9. On (Qlqhun) ni Eniti O ran Ojise re pelu itonisona ati esin ododo, ki O le fi bori gbogbo esin miran, biofe bi awon ti o nda nkan po mo Qlqhun ko.

10. Enyin eniti e gbagbo lododo, nje emi ko ni toka fun nyin sibi owo kan ti yio gba nyin la ninu iya eleta-elero.

11. (On ni pe) ki enyin gba Qlqhun gbq ni ododo ati Ojise Re, ki enyin si gbiyanju si oju qna Qlqhun pelu owo nyin ati emi nyin. Awonyi dara ju fun nyin ti enyin ba je eniti o mo be.

12. On yio si fi ori esen nyin ji nyin, yio si fi nyin wo qgba-idera ti awon odo nshan ni isale won, ati awon ibugbe ti o dara ninu awon qgba-idera ibugbe ti yio ma wa titi, eyi je erenje ti o tobi.

13. Ati awon miran ti enyin feran re: On ni aranse lati odo Qlqhun ati isegun ti o sunmo; ki o si fun awon onigbagbo ododo niro idunnu.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مِمَّنُ نُورِهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ لَا يَمُنُّوا هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ بَحْرَيْنٍ تُنَجِّسُهُمْ
مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُجِّلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

يَعْرِفُ لِكُلِّ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلُكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينُ ظَنِينَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
ذَٰلِكَ الْمَوْزِعُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نُصِرَ مِنْ اللَّهِ وَفُتِحَ قَرِيبٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

14. Ẹnyin ẹniti ẹ gbagbọ lododo, ẹ jẹ ẹniti yio ran ẹsin Ọlọhun lọwọ, gẹgẹbi Isa ọmọ Mariyama ti sọ fun awọn ọmọ ẹhin rẹ pe: Tani yio ẹ iranlọwọ fun mi si oju ọna ti Ọlọhun? Awọn ọmọ ẹhin rẹ sọpe: Awa yio ran ẹsin Ọlọhun lọwọ. Awọn apakan gbagbọ ninu awọn ọmọ Israila awọn apakan si ẹ aigbagbọ (keferi); nigbana A fun awọn ẹniti nwọn gbagbọ lododo ni agbara bori awọn ọta wọn ti nwọn wa jẹ ẹniti o bori.

(62) Suratul - Jumu'ah

*Ni orukọ Ọlọhun Ajọkẹ aiyẹ,
Aşakẹ qrun.*

1. (Gbogbo) ohun ti o wa ni sanma ati ohun ti o wa ni ilẹ nşẹ afọmọ fun Ọlọhun, Ọba ti O mọ, Alagbara, Ọlọgbọn.

2. On ni Ẹniti O gbe dide larin awọn alaikomọkọ mọkka Ojişẹ kan ninu wọn ti o nke awọn àyah Rẹ fun wọn ti o si nfọ wọn mọ (kuro ninu ẹbọ), o si nkọ wọn ni Tirà ati ogbọn, botilẹjẹpe nwọn sọnu şiwaju.

3. Ati awọn miran ninu wọn ti nwọn kò iti lepa ba wọn. Atipe On ni Alagbara, Ọlọgbọn.

4. Eyi jẹ òre ajulọ ti Ọlọhun, A si ma fun ẹniti O ba fẹ. Atipe Ọlọhun ni Olore-ajulọ ti o tobi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْرًا لَكُمْ قَالِ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَمَا مَنَّتْ طَلِيقَةٌ مِنْ نَبْتِ إِسْرَائِيلَ
وَكَفَرَتْ طَلِيقَةٌ فَأَيُّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿٦٢﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَكَ
الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦١﴾

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلَالِ قَوْمِ ثَمُودَ ﴿٦٢﴾

وَالْآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦٤﴾